

CANDIDATE
NAME

--	--	--	--	--

CENTRE
NUMBER

--	--	--	--	--

CANDIDATE
NUMBER

--	--	--	--



SECOND LANGUAGE URDU

3248/02

Paper 2 Language Usage, Summary and Comprehension

May/June 2014

1 hour 45 minutes

Candidates answer on the Question Paper.

No additional materials are required.

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

Write your answers in the spaces provided on the question paper.

Write in dark blue or black pen.

Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.

DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer **all** questions.

Write your answers in Urdu.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.

The number of marks is given in brackets [] at the end of each question or part question.

مندرج ذیل ہدایات غور سے پڑھیے۔

اپنے تمام جوابات اسی پرچے پر سوالوں کے نیچے لکھیں۔

صرف نیلے یا کالے رنگ کا قلم استعمال کریں۔

شپیز، گوند، ہائی لائزر، ٹپ ایکس، پیپر کلپس کا استعمال منع ہے۔

بار کوڈ پر کچھ نہ لکھیں۔

ہر سوال کا جواب دیں۔

اپنے جوابات اردو میں تحریر کریں۔

زانکشیٹ استعمال کرنے پر انہیں پرچے کے ساتھ نتھیں کر دیں۔

اس پرچے میں ہر سوال کے مارکس بریکٹ میں دیئے گئے ہیں: []

This document consists of 10 printed pages and 2 blank pages.

BLANK PAGE

PART 1: Language usage**Vocabulary**

نیچے دیئے گئے محاوروں سے اردو میں مکمل جملے بنائیں، اس طرح کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔

1 آڑے ہاتھوں لینا۔

[1] _____

2 سبز باغ دکھانا۔

[1] _____

3 راس آنا۔

[1] _____

4 منه سے پھول چھڑانا۔

[1] _____

5 شخی گھارنا۔

[1] _____

[Total: 5]

Sentence transformation

نیچے دیئے گئے جملوں کو فعل ماضی سے فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔

مثال: اُس نے اپنی بدسلوکی سے سب کو اپنے خلاف کر لیا تھا۔
وہ اپنی بدسلوکی سے سب کو اپنے خلاف کر لے گا۔

6 ایک زمانہ میں سماجی بُرا یا عروج پڑھیں۔

[1]

7 وہ وعدہ خلافی کو بُرانہیں سمجھتا تھا۔

[1]

8 حامد نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔

[1]

9 وہ اپنی چاپلوسی سے سب کو بے وقوف بناتی تھی۔

[1]

10 بارش کی کمی قحط کا سبب بن گئی تھی۔

[1]

[Total: 5]

Cloze Passage

خالی جگہوں کو پُر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیئے گئے ہیں۔ سوال نمبر 11 سے 15 تک ہر خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح الفاظ چُن کر نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔

مسلسل ناکامیاں عام طور پر [12] اثرات پیدا کرتی ہیں جس کا نتیجہ [11] ہوتی ہے۔ اکثر اوقات انسان غم و غصہ اور جھنچھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ منفی سوچ کردار پر اثر انداز ہوتی ہے اور گھر بیلوں تعلقات [13] کا باعث بنتی ہے۔ محرومی اور ناکامی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اس اعتماد و یقین کے ساتھ [14] کہ سیاہ بادلوں کے پیچے چھپا سورج نکلنے ہی والا ہے کامیابی کی [15] تک پہنچاتا ہے۔

سنوارنے - سدھارنے - جینا - مایوسی - بگاڑنے - خوشی - کامیابی - سرنا -

راحت - کرسی - مقام - منزل - مشبت - منفی - صحیح -

- | | |
|-------------------|----|
| [1] _____ | 11 |
| [1] _____ | 12 |
| [1] _____ | 13 |
| [1] _____ | 14 |
| [1] _____ | 15 |
| [Total: 5] | |

PART 2: Summary

مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھنے کے بعد دیئے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

ہمالیہ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ دو ہزار چار سو کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے یہ پہاڑ سطح سمندر سے پانچ میل کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہندوستان، نیپال، بھوٹان، تبت، پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں کی حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں اور دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ایورسٹ، کے ٹو، کنچن چنگا کا شمار اسکی بلند ترین چوٹیوں میں ہوتا ہے۔ ان پہاڑوں کے دامن میں جہاں برف سے ڈھکنے ناقابل رہائش علاقے ہیں وہاں سرسبز و شاداب وادیاں اور گھنے جنگلات بھی ہیں جن میں جنگلی حیات کی فراوانی ہے۔

ہمالیہ کے دامن سے نکلنے والے دریاؤں میں سے برہم پُترا، گنگا اور انڈس ہندوستان اور پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں ملکوں میں بھلی پیدا کرنے، فیکٹریاں اور کارخانے چلانے اور گھریلو استعمال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہی دریا پانی فراہم کرتے ہیں۔

ان علاقوں کا موسم ناقابل بھروسہ ہے۔ اچانک اور کسی بھی وقت تیزی سے بدل سکتا ہے۔ تیز طوفانی ہوا ہیں، موسلا دھار بارش، برف باری، زلزلوں کے جھٹکے اور پھسلتے ہوئے برف کے تودے نہ صرف کوہ پیاؤں بلکہ وادی میں بسنے والے باشندوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔

ہمالیہ کی چوٹیاں سر کرنے کوہ پیا اپنی شروعات عموماً شاہ مشرقی علاقوں سے کرتے ہیں۔ یہاں کے باشندے شرپا کھلاتے ہیں جو ان پہاڑوں کو خدا کا گھر، اور ایورسٹ کو دیوی ماں کے نام سے پکارتے ہیں۔ انکی گزری سر کوہ پیا کی رہبری اور انہیں ضروری سامان مہیا کرنے سے حاصل ہونے والی رقم پر ہوتی ہے جو انکی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔ کچھ نے اسی رقم سے سیاحوں کے لیے ہوٹل بھی تعمیر کر لئے ہیں۔ سیاحت کی ترقی، انکے رہنم کے طریقوں میں تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ کئی بین الاقوامی اداروں نے دو اخانے، اسکول اور واٹر پلانٹ، مہیا کر کے انکی زندگی آسان بنادی ہے۔

¹⁶ دیگئی عبارت کو پڑھ کر اشاروں کی مدد سے تقریباً سو الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو، اپنے الفاظ میں لکھئے۔

- | | |
|------------|-----|
| حدود اربع | (a) |
| دریا | (b) |
| خطرات | (c) |
| باشندے | (d) |
| ذریعہ آمدی | (e) |

PART 3: Comprehension

Passage A

درج ذیل عبارت کو پڑھیے پھر دیئے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

دنیا کا سب سے خطرناک ترین سفر تہاٹے کرنے کا فیصلہ کسی مرد کا نہیں بلکہ ایک نوجوان بритانوی خاتون کا ہے جنکی عمر صرف 26 سال ہے۔ اس سفر کو 'دنیا کے گرد لندن سے لندن تک' کا نام دیا گیا ہے۔ سارہ اون یہ سفر خشکی پر سائیکل اور سمندر پر چپو سے چلنے والی کشتی میں طے کریں گی۔ یہ دنیا کی کم سترین شخصیت اور پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے عزم و عالیٰ ہمتی کا ثبوت تن تہاٹ 2009 میں اسی کشتی سے بحر ہند پار کر کے دیا اور ہم جو خاتون کے نام سے مشہور ہوئیں۔

اندازے کے مطابق اس سفر کے لیے ڈھائی سال کا عرصہ درکار ہوگا جس میں سے گیارہ مہینے سمندر پر گزریں گے۔ بیس ہزار میل کی اس ہمیں میں ذریعہ سفر سائیکل اور کشتی ہوں گے۔ یہ کشتی 'کایاک' کہلاتی ہے چپو سے چلنے والی یہ کشتی ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی کے استعمال میں آسکتی ہے۔ شویقیہ حضرات اسے کشتی کی دوڑ میں حصہ لینے یا تفریخ کے لیے کشتی رانی میں استعمال کرتے ہیں۔

ابھی تک صرف دو مرد حضرات بحر الکاہل کو اس طرح طے کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ سارہ اون ان کے نقش قدم پر چلنے والی پہلی خاتون ہیں۔ وہ یہ ہم خراج تحسین کے طور پر اپنے والد کو پیش کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سفر کی تمام مشکلات اور صعوبتیں اس رنج والم کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں جو ان کے والد کی موت نے انہیں دیا ہے۔ اس سفر سے بخیریت والی ہی اون کے دکھ کا مدوا ہوگی۔

اس دوران پیش آنے والے خطرناک ترین مراحل میں نہ صرف قدرتی آفات کا مقابلہ، پیچیدہ راستوں پر سائیکل چلاتے ہوئے لاریوں اور ٹرکوں کے نیچے کچلے جانے کا اندریشہ بلکہ اسکے پن میں اپنے آپ کو ڈھارس دینا اور خود کی حوصلہ افزائی کرنا بھی شامل ہیں۔

اس سفر سے وہ کچھ خیراتی تنظیموں کے لیے جن میں کینسر ریسرچ اور دوسرے امراض بھی شامل ہیں پسیے اکٹھا کرنا چاہتی ہیں۔ سارہ کو امید ہے کہ اون کی یہ ہم نہ صرف چندہ اکٹھا کرنے بلکہ لوگوں کے دلوں میں خود اپنے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور مصائب سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔

اب نیچ دیئے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

17 سارہ اُٹن کس وجہ سے 'مہم جو خاتون کے نام سے جانی جاتی ہیں؟

[2]

18

'دنیا کے گردنڈن سے اندرن تک' کا سفر کتنا لمبا ہو گا اور اسے طے کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟

[2]

19

عبارت کے مطابق 'کایاک' کیا ہے اور عموماً کس طرح استعمال ہوتی ہے؟

[3]

20

وہ سفر کی کامیابی کس کے نام کرنا چاہتی ہیں اور اس بارے میں اُنکے کیا تاثرات ہیں؟

[3]

21

اس سفر کی کتنی تین مشکلات کا تذکرہ کیا گیا ہے؟

[3]

22

اس سفر کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ لوگوں میں کیا جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہیں؟

[2]

[Total: 15]

Passage B

درج ذیل عبارت کو پڑھئے پھر دیئے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھئے۔

قدیم یونانی زعفران کو شاہی پھول، کہا کرتے تھے کیونکہ اسکا رنگ شاہی محل کا پسندیدہ رنگ سمجھا جاتا تھا۔ روم کے اعلیٰ گھرانے اسکی خوبیوں کے شیدائی تھے نہ صرف کھانوں میں بلکہ غسل کے پانی میں بھی اسکا استعمال کرتے تھے تاکہ اسکی مہک اُنکے بدن اور لباس میں رچی لسی رہے۔

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پودا یونان، روم اور ایران میں اگایا گیا۔ مسلمان حکمران اسے اپنے ساتھ اچین لے گئے۔ تاجریوں اور سیاحوں کے ذریعہ ایشیا کے مختلف حصوں میں پہنچا۔ ہندوستان میں اسکی کاشت صرف کشمیر میں کی جاتی ہے جہاں تقریباً تین ہزار ایکٹر کا علاقہ صرف زعفران کی کاشت کے لیے مخصوص ہے جس سے سالانہ تقریباً پانچ ہزار کلو زعفران حاصل ہوتا ہے۔

زعفران کی کاشت بڑی مہارت کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کا پودا ڈھلان پر اگایا جاتا ہے۔ اسکے نیچے دراصل 'بلب' ہوتے ہیں جو چودہ سال تک استعمال میں آسکتے ہیں۔ پودا صرف بیس سے تیس سینٹی میٹر اونچا ہوتا ہے اور ایک وقت میں صرف تین سے چار پھول کھلتے ہیں۔ ہر پھول تقریباً تیس ملی گرام زعفران پیدا کرتا ہے اور ایک کلو زعفران کے حصوں کے لیے انداز ایک ملین پودوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لئے زعفران کا شمار قسمی مصالحہ جات میں کیا جاتا ہے۔

بہار آنے پر جب پھول کھلتے ہیں پورا گاؤں جمع ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں پھول پختے جاتے ہیں۔ ان پھولوں کو بڑی احتیاط سے سکھایا جاتا ہے، پھر ان سوکھے پھولوں سے زعفران حاصل کیا جاتا ہے۔

زعفران کئی طبقی خصوصیات کا حامل ہے۔ اسکی جراشیم کش خصوصیت کی بناء پر سکندر اعظم اپنے زخموں کو دھونے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، مصری طبیب مختلف امراض خصوصاً آنٹوں کی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چائے میں اسکا استعمال پس مردگی اور ذہنی تناؤ دور کرتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق کینسر کی روک تھام میں بھی مددگار ثابت ہوا ہے۔

کئی مذہبی عبادت گاہوں میں اسکا استعمال عام ہے۔ اسے روحانی روشنی حاصل کرنے اور بدی سے نجات کا بھی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دعاؤں کے علاوہ زعفران عطریات بنانے، کھانوں اور مشروبات میں خوش بو اور ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اب نیچے دیئے گئے سوالوں کے جواب چہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔

23 زعفران کو شاہی پھول، کا نام کس نے اور کیوں دیا؟

[2]

24 رومی اسکا استعمال کن طریقوں سے کرتے تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟

[3]

25 زعفران کے حصول کے لیے اتنے زیادہ پودوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟

[2]

26 بہت سے لوگوں کی کب اور کیوں ضرورت پڑتی ہے؟

[2]

27 زعفران کن طبقی خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے؟

[3]

28 مذہبی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے؟

[3]

[Total: 15]

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.